

[Published in the Gazette of Pakistan, Extraordinary, Part-1,
dated the *7th July, 2020*]

ORDINANCE NO. IX OF 2020

AN

ORDINANCE

further to amend the Corporate Restructuring Companies Act, 2016

WHEREAS it is expedient to amend the Corporate Restructuring Companies Act, 2016 (XXXII of 2016) for the purposes hereinafter appearing;

AND WHEREAS the Senate and the National Assembly are not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

It is hereby enacted as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Ordinance shall be called the Corporate Restructuring Companies (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) This Ordinance shall come into force at once.

2. **Amendments in Section 2, Act XXXII of 2016.**—In the Corporate Restructuring Companies Act, 2016 (XXXII of 2016), hereinafter called as the said Act, in section 2,—

(a) in sub-section (1),—

(i) after clause (ii), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(iia) “Companies Act” means the Companies Act, 2017 (XIX of 2017);”;

(ii) in clause (iv), in sub-clause (a), after the word “institutions”, the expression “, save as otherwise provided for in section 8A” shall be added;

(iii) clause (vi) shall be omitted;

(iv) in clause (x) after the word “obligation”, the words “or which has been classified by the financial institution as a loss in its books in accordance with the applicable laws” shall be added;

(v) clause (xii) shall be omitted;

(vi) after clause (xxi), the following new clause (xxia) shall be inserted, namely:—

“(xxia) “trust” means a trust constituted pursuant to section 6A,”;
and

(vii) in sub-section (2), for the word "Ordinance", the words "Companies Act" shall be substituted.

(b) in sub-section (2), for the word "Ordinance", the words "Companies Act" shall be substituted.

3. **Amendment in section 4, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, in section 4, in sub-section (2), for the word "Ordinance", the words "Companies Act" shall be substituted.

4. **Amendments in section 5, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, in section 5, in sub-section (1),—

(a) in clause (g), the word "and", occurring at the end, shall be omitted;

(b) in clause (h), for full stop at the end a semicolon shall be substituted and thereafter the following new clauses shall be added, namely:—

"(i) to provide finance as defined in the Financial Institutions (Recovery of Finances) Ordinance, 2001 (XLVI of 2001) for carrying out the purposes of this Act;

(j) to establish and provide management services to trusts in terms of section 6A;

(k) to act as an agent for any financial institution for the purpose of recovering their non-performing assets as providing as section 6B, and

(l) to develop and implement a scheme in terms of section 8A."

5. **Amendments in section 6, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, in section 6, in sub-section (1),—

(a) in clause (a),—

(i) the expression "established, owned or" shall be omitted; and

(ii) after the expression "affiliates," the expression "subject to clause (e) of sub-section (1)," shall be inserted;

(b) in clause (c), the word "and", occurring at the end, shall be omitted;

- (c) in clause (d), for full stop at the end, a semicolon and the word “and” shall be substituted and thereafter the following new clause (e) shall be added, namely:—

“(e) any transfer or assignment of non-performing assets pursuant to the transfer and assignment agreement shall be deemed to be effected by operation of law and not—

- (i) by virtue of execution of such agreement by any party thereto; and
- (ii) constitute any assignment, transfer, devolution, conveyance, lease, consent order, alienation, parting with possession or any other disposition under any applicable law other than the provisions of section 6.”

6. **Insertion of section 6A, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, after section 6, amended as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely:—

“**6A. Creation of trust.**—(1) A Corporate Restructuring Company may constitute one or more trusts under the Trusts Act, 1882 (II of 1832) for the purpose of acquiring non-performing assets from financial institutions.

(2) A trust constituted under sub-section (1) may acquire non-performing assets from a financial institution in accordance with section 6, provided that the transfer and assignment agreement shall be entered into by the Corporate Restructuring Company, for and on behalf of the trust.

(3) The management of any trust constituted under sub-section (1) shall vest in the Corporate Restructuring Company on the terms set forth in the constitutive document of such trust.

(4) The trust may be liquidated in a manner as may be prescribed.

(5) For the purpose of giving effect to section 6A, the references in this Act to a Corporate Restructuring Company shall, unless repugnant to the context, include a trust established under section 6A.”;

“**6B. appointment a corporate restructuring company as a recovery agent.**—A financial institutions may appoint a corporate restructuring company as its agent for recovery its non-performing assets by entering into an agency agreement with such Corporate

Restructuring Company on such terms and conditions as may be mutually agreed between them:

Provided that in case an agency relationship, their shall be no transfer of any non-performing assets to Corporate Restructuring Company.”

7. **Insertion of sections 7A and 7B, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, after section 6, the following new sections shall be inserted, namely:—

“7A. **Exchange of information.**—(1) For the purposes of this Act, financial institutions may exchange information relating to an obligor on confidential basis with the Corporate Restructuring Company.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any financial institution or its officers, for anything done in good faith in pursuance of this section or for any damage caused or likely to be caused by anything done or intended to be done as aforesaid.

7B. **Credit institution.**—A Corporate Restructuring Company shall be deemed to be a credit institution for the purposes of the Credit Bureaus Act, 2015 (XI of 2015).”;

8. **Insertion of sections 8A and 8B Act XXXII of 2016.**—In the said Act, after section 8, the following new sections shall be inserted, namely:—

“8A. **Scheme.**—(1) A Corporate Restructuring Company, holding at least two-third in value of the principal amount payable to the secured financial institutions, may present a scheme to the Corporate Restructuring Board which may sanction such a scheme, subject to the provisions of this Act.

(2) For the purpose of determining the requisite majority of secured financial institutions as provided in sub-section (1), the Corporate Restructuring Company—

(a) may rely on the publicly available information with the Registrar of Companies; and

(b) shall send a notice to the secured financial institutions in terms of which the secured financial institutions shall be required to swear, within fourteen calendar days of such notice, an affidavit in relation to the following, namely:—

- (i) specify the principal amount owed and outstanding from the obligor together with the nature and extent of their security interest;
 - (ii) basis on which the executant of the affidavit is authorized to execute and bind the concerned financial institution; and
 - (iii) any other matters as may be required by the Corporate Restructuring Company or as may be prescribed.
- (3) If the affidavit provided by any person is false or incorrect in any material respect, or omits any material fact, knowing it to be material or such person fails to provide the same within the time frame or in the manner set forth in sub-section (2), the Commission, in consultation with the Corporate Restructuring Board, may impose a penalty on such a person of an amount not exceeding fifty million Rupees and such penalty shall be in addition to and without prejudice to any other remedy available to any party that may have been effected by a false affidavit or due to the failure to provide the affidavit.
- (4) The Corporate Restructuring Board shall, upon receipt of a scheme from a Corporate Restructuring Company in terms of sub-section (1) and in the manner and period prescribed, invite objections to the same.
- (5) If the Corporate Restructuring Board on consideration of the objections is of the view that the objections are not valid, it may sanction the scheme.
- (6) If the scheme is sanctioned by the Corporate Restructuring Board, by virtue of the scheme, the same shall be binding on the concerned obligor, all its creditors of whatsoever nature, its members and shareholders, its liquidators and other persons who have any interest in the company, pecuniary or otherwise, and shall have effect without requiring compliance with and notwithstanding any—
- (a) other law for the time being in force;
 - (b) agreement or contract entered into or applicable to the concerned obligor; and

- (c) agreement or contract entered into *inter se* financial institutions and other creditors of the concerned obligor.
- (7) The Corporate Restructuring Board may refuse to sanction the scheme where it is satisfied that either the scheme suffers from illegality or procedural requirements of this Act or the rules made there under have not been complied with.
- (8) The provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 6 shall apply *mutatis mutandis* to a scheme sanctioned by the Corporate Restructuring Board under this section.
- (9) Any person aggrieved by the order of the Corporate Restructuring Board may, within thirty days of the date of such order, file a petition for leave to appeal in the High Court having jurisdiction.
- (10) When a scheme is presented to the Corporate Restructuring Board in terms of sub-section (1), no suit or other legal proceedings shall be proceeded with or commenced against the obligor until the scheme is sanctioned by the Corporate Restructuring Board and has attained finality in terms of sub-section (9) or such sanction has been refused by the Corporate Restructuring Board, whichever is earlier.
- (11) Upon sanctioning of the scheme and the same having attained finality in terms of sub-section (6), all suits or other legal proceedings pending against the obligor shall stand abated, provided that a scheme may provide for continuation of any suit or proceeding set forth therein.
- (12) Sections 279 to 283 of the Companies Act shall not apply to any scheme under this section.
- (13) Notwithstanding anything contained in any other law, no civil court as provided for in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) or any other court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the High Court is empowered to determine by or under this section.
- (14) For the purposes of this section,—
- (a) “High Court” means the High Court of the Province where registered office of the Corporate Restructuring Company is located; and

- (b) "Corporate Restructuring Board" means a board notified by the Federal Government in the official Gazette comprising of not more than five members who shall be professionals having experience and sound knowledge of dealing with company law or recovery of non-performing assets or restructuring and rehabilitation of companies in financial distress, and in this regard, subject to the foregoing, any or all of the following matters may be prescribed through rules, namely:—
- (i) functions of the Corporate Restructuring Board and its members;
 - (ii) composition, appointment and governance of the Corporate Restructuring Board and its code of conduct;
 - (iii) remuneration and privileges of members of the Corporate Restructuring Board;
 - (iv) eligibility and qualifications of the members of the Corporate Restructuring Board;
 - (v) budgetary allocation for the proper functioning of the Corporate Restructuring Board and its staff and matters connected to its accountability; and
 - (vi) any other matter that may be considered necessary or expedient for the purpose of furthering the objectives of this section;
- (c) "scheme" means any arrangement, for the purpose of achieving the objectives of this Act, entered into amongst the obligor, the Corporate Restructuring Company and one or more secured financial institutions, that contains one or more of the following, namely:—
- (i) the sale or lease of a part or whole of the business or assets of the obligor;
 - (ii) rescheduling of payments of debt payable by the obligor;
 - (iii) enforcement of any pledge by a third party securing the obligations of the obligor;
 - (iv) settlement of dues payable by the obligor;

- (v) conversion of any portion of debt into ordinary shares of the obligor;
 - (vi) conversion of any portion of debt into assets or properties of the obligor;
 - (vii) matters connected with pending suits and other proceedings against the obligor, including in connection with their abatement; and
 - (viii) provisions that are incidental or conducive to facilitating, promoting or advancing any matter referred to in sub-clauses (a) to (g) or such other matter as may be prescribed;
- (d) "secured financial institutions" means in relation to an obligor, all financial institutions that have created a security interest over any or all of the assets or properties of the obligor, irrespective of—
- (i) whether such security interest is shared amongst such financial institutions as a syndicate or otherwise;
 - (ii) ranking of such security interest amongst such financial institutions; and
 - (iii) whether such security interest secures a non-performing asset.

8B. Special bench of High Court.—(1) The High Courts shall constitute one or more special benches consisting of one or more Judges to adjudicate the cases under this Act.

(2) The special benches as constituted under sub-section (1) shall decide the cases in accordance with the procedure prescribed through rules, if any, within ninety days from the date of institution of the case."

9. **Amendment in section 10, Act XXXII of 2016.**—In the said Act, in section 10, in sub-section (4), for the expression "section 255 of the Ordinance", the expression "section 249 of the Companies Act" shall be substituted.

10. **Insertion of Section 19, Act XXXII of 2016.**—In the said Act after Section 18, the following new sections shall be inserted namely:—

“19. Validation of Laws.—Notwithstanding anything contained in any other law, all transfer of non-performing assets undertaken, orders made, proceedings taken and act done, rules, regulations, circulars, notification and other legal instruments made at any time until the enactment of the Corporate Restructuring Companies (Amendments) Act, 2020 are declared and affirmed to have been and shall deemed to have always been, validly undertaken, made, decided, taken or done and shall not be called in question in any court on any ground whatsoever”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

CORPORATE RESTRUCTURING COMPANIES BILL, 2020 (IX OF 2020)

The existing institutional arrangements and legal processes for revival and rehabilitation of distressed entities are time consuming and inadequate, which make the rehabilitation of distressed entities challenging. Moreover, the existing Corporate Restructuring Companies Act, 2016 does not have provisions to facilitate Corporate Restructuring Companies (CRC) to carry out their operations smoothly.

2. The Corporate Restructuring Companies Bill 2020 (Ordinance No.IX of 2020), inter alia, will make the CRCs operate efficiently, acquire the Non-Performing Assets (NPAs) from the Financial Institutions easily, raise funding for acquisition of NPAs through segregation risks & rewards and extend financing facilities for carrying out the purposes of the Act.

3. The Bill, considering the Government’s objective of reviving the distressed economic assets of the country, will also enable the CRCs to reach compromise with the distressed entities promptly.

4. The Bill is designed to achieve the aforesaid purpose

(Dr. Abdul Hafeez Shaikh)
Advisor to PM on Finance &
Revenue

[جریدہ پاکستان، غیر معمولی، حصہ اول، مورخہ 7 جولائی، ۲۰۲۰ء میں شائع ہوا]

آرڈیننس نمبر ۹ مجریہ ۲۰۲۰ء

کاروباری تعمیر نو کمپنیاں ایکٹ ۲۰۱۶ء میں مزید ترمیم کرنے کا آرڈیننس

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں رونما ہونے والی اغراض کے لیے کاروباری تعمیر نو کمپنیاں ایکٹ ۲۰۱۶ء (۳۲ بابت ۲۰۱۶ء) میں ترمیم کی جائے۔

چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں ہو رہے اور صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اطمینان حاصل ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جو فوری کارروائی کے متقاضی ہیں؛

لہذا، اب، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل ۸۹ کی شق (۱) میں تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حسب ذیل آرڈیننس وضع اور جاری کیا ہے:-
بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ آرڈیننس کاروباری تعمیر نو کمپنیاں (ترمیمی) آرڈیننس، ۲۰۲۰ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۲ کی ترمیم:- کاروباری تعمیر نو کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۶ء

(۳۶ بابت ۲۰۱۶ء) بعد ازیں جس کا حوالہ مذکورہ ایکٹ کے طور پر دیا گیا ہے، کی دفعہ ۲ میں، --

(الف) ذیلی دفعہ (ل) میں، --

(اول) شق (دوم) کے بعد حسب ذیل نئی شق کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

”(دوم الف) ”کمپنیاں ایکٹ“ سے کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (۱۹ بابت ۲۰۱۷ء)

مراد ہے؛“

(دوم) شق (چار) میں، ذیلی دفعہ (الف) میں، لفظ ”اداروں“ کو عبارت ”بجز اس کے جیسا کہ دفعہ ۸ الف میں فراہم کیا گیا ہے“ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

(سوم) شق (چھ) کو حذف کر دیا جائے گا؛

(چہارم) شق (دس) میں لفظ ”ذمہ داری“ کے بعد الفاظ ”یا جسے مالیاتی اداروں نے قابل اطلاق قوانین کی مطابقت میں اپنی کتب میں بطور نقصان درج بند کیا ہو“ کا اضافہ کر دیا جائے گا؛

(پنجم) شق (بارہ) کو حذف کر دیا جائے گا؛

(ششم) شق (اکیس) کے بعد نئی شق (اکیس الف) کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

” (اکیس الف) ”ٹرسٹ“ سے دفعہ چھ الف کی پیروی میں تشکیل کردہ ٹرسٹ مراد ہے؛ اور

(ب) ذیلی دفعہ (۲) میں لفظ ”آرڈیننس“ کو الفاظ ”کمپنیاں ایکٹ“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۳۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۴ کی ترمیم:- مذکورہ ایکٹ میں دفعہ ۴ میں، ذیلی دفعہ (۲)

میں لفظ ”آرڈیننس“ کو الفاظ ”کمپنیاں ایکٹ“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۴۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۵ کی ترمیم:- مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۵ میں، ذیلی دفعہ

(۱) میں،---

(الف) شق (ز) میں، لفظ ”اور“ کو جو آخر میں آرہا ہے، کو حذف کر دیا جائے گا؛

(ب) شق (ح) میں، آخر میں وقف کامل کو رابطے سے تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے بعد حسب

ذیل نئی شق کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:-

” (ط) اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لیے مالیات فراہم کرنا جیسا کہ مالیاتی

ادارے (بازیابی مالیات) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (۴۶ مجریہ ۲۰۰۱ء) میں تعریف کیا

گیا ہے؛

(ی) دفعہ ۲ الف کے مفہوم میں ٹرسٹ کے لیے انتظامی خدمات کا قیام اور فراہمی؛

(ک) غیر فعال اثاثہ جات کی بازیابی کے لیے جیسا کہ دفعہ ۶ ب میں فراہم کیا گیا کسی

بھی مالیاتی ادارے کے کارندے کے طور پر کام کرنا؛ اور

(ل) دفعہ ۸ الف کے اصطلاح میں اسکیم کا فروغ و اطلاق۔۔۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۶ کی ترمیم:- اس ایکٹ میں، دفعہ ۶ میں، ذیلی دفعہ (ا)

میں،۔۔۔

(الف) شق (الف) میں،۔۔۔

(اول) عبارت ”قائم کرے، ملکیت میں لے یا“ کو حذف کر دیا جائے گا؛ اور

(دوم) عبارت ”الحاق کرتا ہے“ کے بعد عبارت ”ذیلی دفعہ (ا) کی شق (ہ) کے تابع“

کو شامل کر دیا جائے گا؛

(ب) شق (ج) میں، لفظ ”اور“، آخر میں آنے پر، حذف کر دیا جائے گا۔

(ج) شق (د) میں، آخر میں وقف کامل کو، رابطہ اور لفظ ”اور“ سے تبدیل کر دیا جائے گا اور بعد

ازاں نئی شق (ہ) کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:-

” (ہ) غیر فعال اثاثہ جات کی کوئی بھی منتقلی یا تفویض جو منتقلی یا تفویض کے اقرار نامے

کی پیروی میں ہو قانون کا موثر عملدرآمد متصور ہوگا اور نہ۔۔۔

(اول) کہ اس اقرار نامے کے کسی بھی فریق تعمیل کے باوصف؛ اور

(دوم) کسی بھی تفویض، منتقلی، انتقال اختیارات، بیع نامے، پٹہ داری، حکم رضامندی،

فروخت بذریعہ انتقال، باقبضہ تقسیم یا کوئی بھی دیگر تصفیہ کی تشکیل کسی قابل اطلاق

قانون کے تحت ماسوائے دفعہ ۶ کے احکامات کے۔۔۔

۶۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء میں، دفعہ ۶ الف کی شمولیت:- مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۶

کے بعد، جیسا کہ مذکورہ بالا طور پر ترمیم کی گئی ہے، حسب ذیل نئی شق کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

”۶ الف۔ ٹرسٹ کی تخلیق:- (۱) کاروباری تعمیر نو کمپنی ٹرسٹس ایکٹ، ۱۸۸۲ء

(۲) بابت ۱۸۸۲ء) کے تحت مالیاتی اداروں سے غیر فعال اثاثہ جات کے حصول کے غرض سے ایک یا زائد

ٹرسٹس تشکیل دے سکتی ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تشکیل کردہ ٹرسٹ دفعہ ۶ کی مطابقت میں مالیاتی ادارے سے غیر فعال اثاثہ

جات کو حاصل کر سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ منتقلی اور تفویض اقرار نامہ میں ٹرسٹ کے لئے اور ٹرسٹ کی طرف سے کاروباری تعمیر نو کمپنی شامل ہوگی۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تشکیل کردہ کسی بھی ٹرسٹ کی انتظامیہ مذکورہ ٹرسٹ کی دستاویز تشکیل میں بیان کردہ شرائط میں کاروباری تعمیر نو کمپنی کو تفویض ہوگی۔

(۴) ٹرسٹ کو اپنے طریقے کار پر تحلیل کیا جاسکے گا جیسا کہ مصرحہ ہو۔

(۵) دفعہ ۶ الف کو موثر بنانے کی غرض سے، اس ایکٹ میں کاروباری تعمیر نو کمپنی کے حوالہ جات تا وقتیکہ سیاق و سباق سے متناقص نہ ہوں، میں دفعہ ۶ الف کے تحت قائم کردہ ٹرسٹ شامل ہوگا۔

۲۶۔ کاروباری تعمیر نو کمپنی کا بطور کارندہ بازیابی تقرر:- مالیاتی ادارہ کاروباری

تعمیر نو کمپنی کو اپنے غیر فعال اثاثہ جات کی بازیابی کے لیے مذکورہ کاروباری تعمیر نو کمپنی کو ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ دونوں کے مابین باہم متفقہ ہوں کے ساتھ ایجنسی اقرار نامے میں شامل ہو کر اپنے کارندہ کے طور پر تقرر کر سکتا ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ ایجنسی کے تعلق کی صورت میں، کوئی بھی غیر فعال اثاثہ جات کاروباری تعمیر نو کمپنی کو منتقل نہ ہوں گے۔“

۷۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء میں، دفعات ۷ الف اور ۷ ب کی شمولیت:-

مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۶ کے بعد، نئی دفعات کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

”۷ الف۔ معلومات کا تبادلہ:- (۱) اس ایکٹ کی اغراض کے لیے مالیاتی ادارے سے

متعلقہ معلومات کا خفیہ بنیادوں پر کاروباری تعمیر نو کمپنی کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں۔

(۲) کسی بھی مالیاتی ادارے یا اس کے افسران، کے خلاف اس دفعہ کی پیروی میں نیک نیتی سے کیئے گئے

کسی بھی کام یا کسی بھی ہونے والے نقصان یا جس کے ہونے کا احتمال ہو یا جس کے کیئے جانے کا ارادہ ہو جیسا کہ مذکورہ بالا ہے کے خلاف کوئی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائی نہ ہو سکے گی۔

۷ ب۔ قرض دینے والے ادارے:- کاروباری تعمیر نو کمپنی کریڈٹ بیورو ایکٹ، ۲۰۱۵ء

(۱۱ بابت ۲۰۱۵ء) کی اغراض کے لئے قرض دینے والے ادارے متصور ہوں گے۔

۸۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء میں دفعہ ۸ الف اور ۸ ب کی شمولیت:- مذکورہ ایکٹ

میں، دفعہ ۸ کے بعد، حسب ذیل نئی دفعات کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

۸ الف۔ اسکیم۔ (۱) کاروباری تعمیر نو کمپنی، جو کم از کم اصل رقم کی قدر میں دو تہائی مالیاتی

اداروں کو قابل ادائیگی ہو، کاروباری تعمیر نو بورڈ کو اسکیم پیش کر سکتی ہے جو اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق ایسی اسکیم کی منظوری دے سکتا ہے؛

(۲) سیکورڈ مالیاتی اداروں کی مطلوبہ اکثریت کی تعیین کرنے کی غرض سے جیسا کہ ذیلی دفعہ (۱) میں فراہم

کیا گیا ہے، کاروباری تعمیر نو کمپنی۔

(الف) کمپنیات رجسٹرار کے پاس سرکاری طور پر قابل دستیاب معلومات پر بھروسہ کر سکتا ہے؛ اور

(ب) سیکورڈ مالیاتی اداروں کو نوٹس بھیجے گا جس کے مفہوم میں مالیاتی ادارے سے مذکورہ نوٹس سے

کلینڈر کے چودہ دنوں میں قسم اٹھانے کا تقاضا کیا جائے گا، حسب ذیل کی نسبت ایک بیان حلفی دے، یعنی:-

(اول) زیر بار کی جانب سے اصل واجب از رقم اور بقایا جات مع ان کی نوعیت اور ان کے سیکورٹی مفاد کی صراحت کے؛

(دوم) بنیاد جس کی پناہ پر بیان حلفی کا تعیل کنندہ تعیل کروانے کا اور متعلقہ مالیاتی ادارے کو پابند کرنے کا مجاز ہوگا؛ اور

(سوم) کوئی بھی دیگر امور جیسا کہ کاروباری تعمیر نو کمپنی کی جانب سے مطلوب ہوں یا جیسا کہ صراحت کیے جاسکتے ہوں۔

(۳) اگر بیان حلفی جو کسی شخص کی جانب سے فراہم کی گئی جھوٹی یا غلط ہو کسی بھی اہم پہلو کی نسبت، یا کسی بھی

اہم حقائق کو حذف کیا گیا ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اہم ہیں یا مذکورہ شخص طے شدہ وقت میں ویسی ہی فراہمی میں

ناکام ہو جائے یا اس طریقہ کار میں جو ذیلی دفعہ (۲) میں بیان کیا گیا ہے، تو کمیشن، کاروباری تعمیر نو بورڈ کے ساتھ

مشاورت سے، تو مذکورہ شخص پر جرمانہ عائد کر سکتا ہے جو پچاس ملین روپے کی رقم سے متجاوز نہ ہو اور مذکورہ جرمانہ اضافی ہو

گا اور کسی بھی فریق کو دستیاب کسی بھی دیگر تدارک سے بلا مضرت جو غلط بیان حلفی سے یا بیان حلفی فراہم کرنے پر

ناکامی کے سبب سے متاثر ہو سکتا ہے۔

(۴) کاروباری تعمیر نو بورڈ، کاروباری تعمیر نو کمپنی سے ذیلی دفعہ (۱) کے مفہوم میں اسکیم کی وصولی پر، اور اس طریقہ کار اور صراحت کردہ مدت میں، اس پر اعتراضات طلب کر سکتا ہے۔

(۵) اگر کاروباری تعمیر نو بورڈ کا اعتراضات پر غور و خوض کرنے پر یہ نقطہ نظر ہو کہ اعتراض جائز نہیں ہیں، تو وہ اسکیم کی منظوری دے سکتا ہے۔

(۶) اگر اسکیم کی منظوری کاروباری تعمیر نو بورڈ کی جانب سے دی گئی ہو، تو اسکیم کے باوصف وہی کچھ متعلقہ ذمہ دار پر بھی واجب ہوگا، اس کے تمام قرض خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، اس کے ارکان اور شیئر ہولڈرز، اس کے ختم اور دیگر اشخاص جو کمپنی میں کوئی بھی مفاد رکھتے ہوں، مالیاتی یا علاوہ ازیں، اور اس کی تعمیلی مقتضیات کے بغیر اثر رکھتے ہوں اور باوصف کسی۔۔۔

(الف) فی الوقت نافذ العمل دیگر قانون کے،

(ب) اقرار نامہ یا معاہدہ کے جس میں شامل ہوں یا متعلقہ ذمہ دار پر قابل اطلاق ہو؛

(ج) بھی اقرار نامہ یا معاہدہ کے جس مالیاتی ادارے یا بھی طور پر اور متعلقہ ذمہ دار کے دیگر قرض خواہ شامل ہوں۔

(۷) کاروباری تعمیر نو بورڈ اسکیم کو منظور کرنے سے انکار کر سکتا ہے جہاں اسے اطمینان ہو کہ آیا اسکیم غیر قانونیت یا اس ایکٹ یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد جن کی تعمیل نہیں کی گئی کی ضابطہ جاتی مقتضیات سے متاثر ہوئی۔

(۸) دفعہ ۶ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ج) کے احکامات بتعمیرات مناسب اسکیم پر جس کی اس دفعہ کے تحت کاروباری تعمیر نو بورڈ نے منظوری دی ہے پر لاگو ہوں گے۔

(۹) کوئی بھی شخص جو کاروباری تعمیر نو بورڈ کے حکم سے متاثر ہو، مذکورہ حکم کی تاریخ سے تیس ایام کے اندر، عدالت عالیہ میں جو اختیار سماعت رکھتی ہو میں اپیل کی پٹیشن دائر کر سکتا ہے۔

(۱۰) جب ذیلی دفعہ (۱) کے مفہوم میں کاروباری تعمیر نو بورڈ میں اسکیم پیش کی گئی ہو تو، کوئی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائیوں کا آغاز یا نفاذ ذمہ دار (Obligor) کے خلاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اسکیم کی کاروباری تعمیر نو بورڈ کی جانب سے منظوری نہ دے دی گئی ہو اور ذیلی دفعہ (۹) کے مفہوم میں اتمام تک پہنچ چکی ہو یا کاروباری تعمیر نو بورڈ کی جانب سے مذکورہ منظوری سے انکار کیا جا چکا ہو، جو بھی پہلے ہو۔

(۱۱) اسکیم کی منظوری دینے پر اور اُسے ذیلی دفعہ (۶) کے مفہوم میں اتمام تک پہنچنے پر، ذمہ دار (Obligor) کے خلاف زیر سماعت تمام مقدمات یا دیگر قانونی کارروائیاں ساقط سمجھی جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ اسکیم اس لحاظ سے وجود میں آنے والے کسی بھی مقدمے یا کارروائی کے اجراء کے لیے فراہم کی جاسکے گی۔

(۱۲) کمپنیات ایکٹ کی دفعات ۲۷۹ تا ۲۸۳ کا اطلاق اس دفعہ کے تحت کسی بھی اسکیم پر نہ ہوگا۔

(۱۳) کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، عدالت دیوانی کو جیسا کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) میں فراہم کی گئی ہے یا کسی بھی دیگر عدالت کو کسی بھی معاملے کی نسبت کسی بھی مقدمے یا کارروائی کی سماعت کرنے کے لیے اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا جبکہ عدالت عالیہ کو اس دفعہ کی رُو سے یا اس کے تحت تعین کرنے کے لیے مجاز کیا گیا ہے۔

(۱۴) اس دفعہ کی اغراض کے لیے،

(الف) ”عدالت عالیہ“ سے صوبے کی عدالت عالیہ مراد ہے جہاں کاروباری تعمیر نو کمپنی کار جسٹر شدہ دفتر واقع ہو؛ اور

(ب) ”کاروباری تعمیر نو بورڈ“ وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری جریدے میں مشتہر کردہ بورڈ مراد ہے جو پانچ اراکین پر مشتمل ہوگا جو کمپنی قانون سے معاملات کرنے یا غیر فعال اثاثہ جات کی بازیابی یا مالیاتی قرقی میں کمپنیوں کی تعمیر نو اور بحالی کے تجربے اور صحیح علم کے حامل پیشہ ور ہوں گے اور اس ضمن میں، مذکورہ بالا کے تابع، حسب ذیل کوئی بھی یا تمام معاملات قواعد کی رُو سے مقرر کیے جاسکیں گے، یعنی:-

(اؤل) کاروباری تعمیر نو بورڈ اور ان کے اراکین کے کارہائے منصبی؛

(دوم) کاروباری تعمیر نو بورڈ کی ساخت، تقرری اور طرز حکمرانی اور ان کا مجموعی طرز عمل؛

(سوم) کاروباری تعمیر نو بورڈ کے اراکین کی اجرت اور مراعات؛

(چہارم) کاروباری تعمیر نو بورڈ کے اراکین کی اہلیت اور قابلیت؛

(پنجم) کاروباری تعمیر نو بورڈ اور ان کے عملے کی فعال کار منصبی کے لیے تعین بجٹ اور ان

کے احتساب کے لیے منسلک معاملات؛ اور

(ششم) کوئی بھی دیگر معاملہ جو کہ اس دفعہ کی مزید برآں مقاصد کی غرض سے ضروری یا

قرین مصلحت سمجھا جائے؛

(ج) ”اسکیم“ سے اس ایکٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے، کوئی بھی انتظام مراد ہے،

جو ذمہ دار (Obligor)، کاروباری تعمیر نو کمپنی اور ایک یا زائد کفالتی مالیاتی اداروں کے درمیان ہوشامل ہے، جو کہ حسب ذیل ایک یا زائد پر مشتمل ہوگی، یعنی:-

(اول) ذمہ دار (Obligor) کے کاروبار یا اثاثہ جات کی گلی یا اسکے حصے کی فروخت

کرنایا پٹہ پر دینا؛

(دوم) ذمہ دار (Obligor) کی جانب سے واجب الادا قرضے کی ادائیگی میں تبدیلی؛

(سوم) ذمہ دار (Obligor) کے وجوب کو تحفظ دینے والے فریق سوم کی جانب سے کسی

بھی کفالت کا نفاذ؛

(چہارم) ذمہ دار (Obligor) کی جانب سے واجب الادا واجبات کا تصفیہ؛

(پنجم) ذمہ دار (Obligor) کے معمولی حصص میں قرضے کے کسی بھی حصے کی تبدیلی؛

(ششم) ذمہ دار (Obligor) کے اثاثہ جات یا املاک میں قرضے کے کسی بھی حصے کی تبدیلی؛

(ہفتم) ذمہ دار (Obligor) کے خلاف زیر تجویز مقدمات اور دیگر کارروائیوں سے

منسلکہ بشمول ان کی تخفیف سے متعلق معاملات؛ اور

(ہشتم) احکامات جو کہ ذیلی شقات (الف) تا (ز) میں محولہ کسی بھی معاملے یا ایسے دیگر

معاملے کو سہولت پہنچانے، فروغ دینے یا ترقی دینے کے لیے ضمنی یا معاون ہوں

جیسا کہ مقررہ ہو:

(د) ”کفالتی مالیاتی ادارے“ سے ذمہ دار (Obligor) کی نسبت سے، تمام مالیاتی ادارے

مراد ہیں جو کہ ذمہ دار (Obligor) کے کسی بھی یا تمام اثاثہ جات یا املاک پر ضمانتی سود تخلیق

کریں، قطع نظر اس کے کہ۔

(اول) آیا مذکورہ ضمانتی سود مذکورہ مالیاتی اداروں جیسے کہ سینڈیکٹ یا بصورت دیگر کے

درمیان تقسیم کیا گیا ہے؛

(دوم) مذکورہ مالیاتی اداروں کے مابین مذکورہ ضمانتی سود کی درجہ بندی؛ اور

(سوم) آیا مذکورہ ضمانتی سود غیر فعال اثاثہ کو تحفظ دیتا ہے۔

۸۔ عدالت عالیہ کا خصوصی بیج۔ (۱) عدالت ہائے عالیہ اس ایکٹ کے تحت

مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک یا زائد جج صاحبان پر مشتمل ایک یا زائد خصوصی بیج تشکیل دیں گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت بطور تشکیل کردہ خصوصی بیج مقدمے کے آغاز کی تاریخ سے

نوے (۹۰) دن کے اندر، قواعد کے ذریعے سے مقررہ طریقہ کار کی مطابقت میں مقدمات، اگر کوئی ہوں، کا فیصلہ کریں گے۔“

۹۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء کی دفعہ ۱۰ میں ترمیم۔ مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ ۱۰ کی ذیلی دفعہ (۳)

میں، عبارت ”آرڈیننس کی دفعہ ۲۵۵“ کو عبارت ”کمپنیاں ایکٹ کی دفعہ ۲۳۹“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

۱۰۔ ایکٹ نمبر ۳۲ بابت ۲۰۱۶ء میں، دفعہ ۱۹ کی شمولیت۔ مذکورہ ایکٹ میں دفعہ ۱۸ کے بعد

حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی:-

”۱۹۔ قوانین کی جوازیت:- کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، کاروباری

تعمیر نو کمپنیاں (ترامیسی) ایکٹ، ۲۰۲۰ء کے وضع شدہ قانون تک ذمے لیے گئے تمام غیر فعال اثاثہ جات کی منتقلی، وضع

کردہ احکام، کی گئی کارروائی اور کیا گیا فعل، کسی بھی وقت وضع کردہ قواعد، ضوابط، گشتی مراسلے، اعلامیے اور دیگر قانونی

دستاویزات قرار دی گئی ہوں اور اثبات میں تصدیق کی گئی ہوں تو ہمیشہ سے اسی طرح جائز طور پر ذمہ لیے گئے، وضع

کردہ، طے شدہ، کیا گیا یا کی گئی ہوں گی متصور ہوں گی اور کسی بھی عدالت میں کسی بھی وجہ سے جو کوئی بھی ہوزیر بحث نہیں

لائی جائیں گی۔“

بیان اغراض ووجوہ

کاروباری تعمیر نو کمپنیاں بل، ۲۰۲۰ء (نمبر ۹ بابت ۲۰۲۰ء)

مالی پریشانی کا شکار اداروں کے احیاء اور ان کی بحالی کے لئے موجودہ ادارہ جاتی انتظامات اور قانونی طریقہ ہائے کار میں بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے اور یہ ناکافی ہیں جس سے مذکورہ اداروں کی بحالی کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں موجودہ کاروباری تعمیر نو کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۶ء کاروباری کمپنیاں کو اپنے امور احسن طریقے سے سرانجام دینے کے لئے کاروباری تعمیر نو کمپنیاں (سی آر سی) کو سہولت بہم پہنچانے کے لئے تصریحات کا حامل نہیں ہے۔

۲۔ کاروباری تعمیر نو کمپنیاں بل، ۲۰۲۰ء (آرڈیننس نمبر ۹ بابت ۲۰۲۰ء)، مجملہ سی آر سی زکوٰۃ موثر طریقے سے چلانے، مالیاتی اداروں سے کارکردگی نہ دکھانے والے اثاثہ جات (این پی اے ز) کو آسانی سے حاصل کرنے، خطرات اور ثمرات کو علیحدہ کرتے ہوئے این پی اے ز کے حصول کے لئے فنڈنگ اکٹھا کرنے اور ایکٹ ہذا کے مقاصد کی بجا آوری کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کے قابل بنائے گا۔

۳۔ بل، ملک کی معاشی پریشانی کا شکار اثاثہ جات کی بحالی کے حکومتی مقصد پر غور کرتے ہوئے سی آر سی ز کو مالی پریشانی کا شکار اداروں کے ساتھ جلد سمجھوتے پر پہنچنے کے قابل بھی بنائے گا۔

۴۔ بل کا مقصد مذکورہ اغراض کا حصول ہے۔

دستخط۔

(ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ)

وزیراعظم کے مشیر برائے

خزانہ و محاصل